

27 جون 2018

برامپٹن کو ایک صاف ستھرا، محفوظ اور پُرکشش شہر بنانے کے لیے سٹی انتظامیہ نے دو نئے ضمنی قوانین کی منظوری دے دی

برامپٹن، آن - برامپٹن سٹی کونسل نے حال میں دو نئے ضمنی قوانین کی منظوری دی ہے جن کا مقصد شہر کے معیار کو برقرار رکھنا ہے - اس میں بغیر اجازت پارکنگ اور عوامی خلل کے قوانین شامل ہیں۔

غیر منظور شدہ پارکنگ کا ضمنی قانون

مورخہ 30 مئی 2018 کو کونسل نے شاہراہوں کے کناروں پر موجود گھاس والی جگہ اور فرنٹ اور بیک پارٹس میں گاڑیاں کھڑی کرنے کے خلاف ایک ضمنی قانون کی منظوری دی ہے۔ اس نئے ضمنی قانون کے مطابق اہلکار اب ممنوعہ مقامات پر غیر قانونی طور پر پارک شدہ گاڑیوں کے مالکان کو \$75 کا پینلٹی نوٹس جاری کر سکیں گے۔ قانون کا نفاذ کرنے والے اہلکار اب 24 گھنٹے محرک رہیں گے اور پارکنگ کی خلاف ورزی کرنے والے گاڑی مالکان پر موقع پر ہی جرمانے عائد کریں گے۔

سابقہ ضمنی قانون کے مطابق لینڈ اسکیپ فرنٹ اور سائیڈ پارٹس پر کھڑی گاڑیوں کے مالکان کو پراپرٹی اسٹیٹڈ آرڈرز جاری کیے جاتے تھے جبکہ شاہراہوں کے کناروں پر موجود لینڈ اسکیپ پر پارک شدہ گاڑیوں کے مالکان کو پینلٹی نوٹس جاری کیے جاتے تھے۔ سڑکوں کے گھاس والے کناروں پر غیر قانونی طور پر پارکنگ کرنے والوں پر \$35 جرمانہ کیا جاتا تھا جبکہ پرائیویٹ فرنٹ یا سائیڈ پارٹس پر غیر قانونی پارکنگ کرنے والوں کو اپنی گاڑیاں وہاں سے ہٹانے کے لیے کم از کم 21 دن کا وقت دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ، عائد کردہ جرمانوں کے حصول میں ایک سال کا عرصہ لگ جاتا تھا۔

نئے ضمنی قانون کی مدد سے نفاذ کے عمل کو فرنٹ اور سائیڈ پارٹس میں غلط پارکنگ سے متعلق شکایت کے ازالہ پر کم وقت لگے گا اور اہلکاروں کو دیگر ضمنی قوانین کے نفاذ کے مسائل سے نمٹنے کے لیے زیادہ وسائل میسر آئیں گے، جس کی وجہ سے مقامی علاقوں کی خوبصورتی میں بتدریج اضافہ ہو گا۔

عوامی خلل کا ضمنی قانون

ویکینڈ، شادیوں کی تقریبات یا دیگر خصوصی مواقع پر رہائشی پراپرٹیز کو مختلف پارٹیوں کے لیے کرایہ پر دینے سے روزمرہ زندگی کے سکون میں خلل پیدا کرنے، شور شرابہ اور عجیب و غریب حرکات کی وجہ سے شہریوں کو تنگ کرنے کے خلاف کونسل نے مورخہ 27 جون 2018 کو ایک ضمنی قانون کی منظوری دی ہے۔

اس ضمنی قانون کی مدد سے شہریوں اور ان کے مہمانوں کی جانب سے جارحانہ اور/یا بدتمیزی کے رویوں یا کاموں، ہلڈبازی اور روزمرہ زندگی میں خلل پیدا کرنے والے ہر قسم کے کاموں سے سختی کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ اس کی مدد سے روزمرہ زندگی کے دیگر کئی مسائل سے بھی نمٹا جائے گا مثلاً گداگری، عمارتوں پر لغو نقش نگاری اور پراپرٹی کے نقصانات اور ہر قسم کی قابل اعتراض بدبو، دھواں، دھول یا ہوا کو آلودہ کرنے والے ہر قسم کے ذرات کی ممانعت ہو گی، ماسوائے جس کی کونسل نے منظوری دی ہو۔

ماحول کے لیے خلل انگیز پارٹیوں اور دیگر طریقوں سے شہریوں کی زندگیوں کو اجیرن بنانے کی روک تھام کے لیے عوامی خلل کا یہ ضمنی قانون شہر کے نفاذ کے عمل اور پولیس کو زیادہ با اختیار بنا دے گا۔

ضمنی قوانین شہر کے معیار میں اضافہ کرتے ہیں اور برامپٹن کے ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ ان معیارات کی پاسداری میں اپنا کردار ادا کرے۔ رہائشیوں اور سیاحوں سے گزارش ہے کہ وہ شہر کے ضمنی قوانین پر عمل درآمد کر کے شہر کی بہتری میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ یہاں پر رہائش پذیر ہر شخص ایک صاف ستھرے اور محفوظ شہر سے لطف اندوز ہو سکے۔

ان اور دیگر ضمنی قوانین کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں www.brampton.ca/bylaws

